

نایا نلبی و عتیه تلقیقعت رشید پی- رمله مه لنبیخ

٨٦٢-٣٣٧-٧٥٢ مُصْفِيَه ٢، ةِلْمَشْدُوَّلِيَّةِ (٠٨٤١)

اړچ نکړی، ساهمه، نئی همایوون لعله مدنیاتی، ایستادې تابعیتې طبیعته لږ د ټولمهه هنلسا آرفې یهه
ن له ټن لتسا رېکلیه لعله، اړنهه،

^۳ ملکه نیز آن پیسے ۶ رنگ بھیس باء لہ، ریتمشہ ریلمعہ لکھ، رنگ نیشنہ رنگ عیسخہ ملکھدا

ن لاخ ۲۰۱۷ء میں ایک بڑا اجتماعی تحریک کا آغاز ہوا۔ اسے "لٹھے ملکشنا" کہا جاتا ہے۔

ن لگھے ریعیلہ عالنہ ۶ رعنی لشح و ملہ ولگشتانہ دلتیا - ۲

ن لگھے رعیلہ جعلنے ہے رعنے لشک و ملہ ملکشناہ بن لیشناء ۶

نامه های ملکشنا در عیله عالمه ملکشنا دلیل تسا - ۳

٢١٢١٨٨: شیخ پنچھی لہ ۵۰۱۰۱۷۸: تفہیم خیل ک

٥٦٢

لطفه ب ایچ ن لی، ایچ نایله، رکیش های را رله نیز اف ت اسیغت ه ب هجده لر لکلمه هنلتسا آ رفعه معالجه نیا زا غله ه
هشچه ه ره پینپه هفه در، اکل پر ره کلمه ره چه ه مه رله هاء ره ب، بعلقه نیمه ه ب، ب هتفایل بی خت رله لنه ریلسنت
ه سیله ه، مله هاء رشناز (حیتسیجا بیله همگیس ه ره اهتر ن هیسیج، ریلمن) رلخ چیه راله مه ه رلخ راله ه دلخ ریالخ امه
ه هج ه گلزی هما نیا مه مله هاء رشناز رله راله نیتیو (ره اهتر ن هیسیج، ریلمن) رلخ چیه راله ه دلخ رله راله ب
ه بخشیا سیه ن، ه متیسیج ها، ه بخیه ه مله آتسیبل بیلتن قله ه بیلش بیل ه ایچ ن لی، ایچ نیل، ایچ بیلتن تمت سکیش های را رله نیز اف، هنلتسا آ
ه بجله ه ن له لیه ه بخیه در لتخلس هنلتسا آ نا هبه نیا پل، ببلکه ه ن ایوله ره مس نا، ه بخلص هجته ه هتفایل شله ل ت لش
رجولت ه ب هجته ل، تنسانه ره کلمه هنلتسا آ ره قه ه بخشیا سیه ن، ه کلمه رشله ل امامه ه ن انا هتره ل واه رجیه لدرا
ه ره بیله ه ل ن ایوله هنلتسا آ لین، ه هشچه ه بیسیه رعیه ه متیسیج ه، هنلتسا آ ریلسنت شهوج ه ت لعالجه مله آتسیبل
ه، اکل پر تیپله تهوج ه، ره بله ره ل، ه بیل منزه رسمه هتفایل بی خت رله لنه بتثیب بی خت لی ه ماله رله لنه بی خت
ه بیل ره رعیه ه ره ه متیسیج ه

اچھے نیلے ایسے دھن لئے آئے ادا مہشپے ہی حلمہ نیالا آ رہ دیلہ رہ لہوئا

دہلی

ب ملتنسہ رکھیے لئے ہ لی پر رلہ موتیسیس ہجہ اوقایہ
پشچاہ ایچے ہ امہ ہ ب آملنڈہ ریج لٹھ لہاہ تاریخیغت
نیا اشیل پ ہ ریلین ا۔ (۲۸۷۱ء) مالکیہ ملنہ ہ ن لش
متیسا ملٹہ ولجنما ریالتہ ریہتہ پیلسایپ بیلغا لہ موتیسیس ہجہ ا

رَقْلَهُنَّ رَدْلَهُ تِسْيِسْهَا، سَعْيَهُ خَبِيْرَيْنَا رَدْلَهُ الْسَّهُ هَتِبَا
هَاءَ رَمَالَهُ رَحِيْمَهُ بَرَدَلِينَ تَاءَلَقَتَا دَرَكَشَهُمَيْنَهُ دَكَشَهُ
الْقَتَنَا هُ سَالَهُ نَهَچَمَهُ رَدَلِيلَجَهُ رَدَلَهُ بَيْيَنَهُ هَمَلَهُ
رَلِيسَبَهُ مَنْجَهُ رَهِيْ. (Westopz ۹۴ مار ۱۹۸۲) تَسَا هَلَثَهُنَّا
رَيْلَهُنَّهُ دَحَ لَنْشِلَهُ لَهَهَنْلَتِسَآ دَنَلَقَتَنَا هُ سَالَهُ نَاهُهُ مَوْهَهُ

لئے ہے نسلتہ موتھیسیں لے گے اور ہنڑا لئے گا۔

۵۸) نیب ن لحمد و ن لمن، ۹) ریلہ نہیہ لهنلتسا آ وقار، ۱۰) ریلہ نا فہیہ ن ملب هج ملنسلبلوہ الکیل پ تیعنه
ملنسلبلوہ من رلبة تیعنه هب تشنگیوں بلکہ ردا لمفہ ملم بکے
و وحجه ن لیب ردا په هنلتسا آ و وحجه بک نیاما (BebeirF، ۱۹۹۱)
ملش ۱۱) لکب لزاهلس رفلہ وقاریہ هب ریشنه ۱۲) ریچہ ن لہلیخ
نیاما، ۱۳) رلشہ هج رلخیا ش، (AICHEZ ۶۷ دا، ۱۹۹۶)
۱۴) ریچہ ۱۵) هج هنلتسا آ سالکه نا وقاریہ نیما د، ۱۶) رلین وقاریہ
رلخ نا ۱۷) رلکیلہ رلخیا ش ریچہ شدیب ۱۸) هج نیما د
رکیٹھا جا رله نیا رف رلخ نا ۱۹) هج ۲۰) رله لیخی ششیوں بیجیتہ
۲۱) هس هب ان لهنلتسا (Brown et al., 1998). یا لش
ملنچہ میسقت ر، لسحتا ۲۲) رمتی پیلمہ ریچیٹھا جا رله نلتسا
۲۳) لتخیل ملنلتسا آ وہن، ۲۴) هب ۲۵) هج رکیٹھا جا رله نلتسا
(Biliske et al., 2002) مانہیڑو میسقت ر، ۲۶) یکلمہ

بیجت، مه راهیسته بسیار در لخیل دنلتسا،
دویسته دشیه بالکشا در همان راهیل دهیلیغ
و لخه ششیپ، بیسته در هلهیلیه ششیپ رنگه وینه
هتلنلسته بلتفاره نه لفتا مجلوه رده منه و هجه نینچمه
دوهه زهیخه (Sternberg et al., 2002) بندهش ره
نامه تریه له آنرا ملقتسا به دسته از دنلتسا آنیا، همه
رده هنلتسا، بیه دنیشیپ ل رده بکلمه هنلتسا، عالض
لحسه دستیه هر یک سلنسته، رنگه ایلیاء در لخیل دنلتسا
بلنامه، راهی معالله، همه ریهنه هر یک لین نلقفعه
(Bestelmeier et al., 2003; Achter et al., 1992).

مجبیت لب لرمهلیگ رشته پرت ایسیغه (۳۸۷۱) همان مفیله
هذلتسا آنکی همه ایمه معالله عیمه همخشبا نا ململه ب
د همخشبا نارهسته لـ ۳۰۰ ململه بـ رخـ لـ تـ خـ لـ سـ
هـ ذـ لـ تـ سـ آـ بـ نـ هـ مـ لـ سـ هـ بـ هـ شـ اـ نـ بـ هـ آـ تـ سـ بـ

رله لدنیاف بییغ ل لهبیا، ره کلمه هنلتسا
ملنه نلشن ه لنشلریه متسیس کری، کلمه ه رکیش هاهجا
تبیه رله، هنچل ه لنشلریه نله، نله، ره امحلق
ه لکاه لکش شعل (رن همسشت آه پ تکش) هنلتسا
ه همه رلبه لکاب نتشاء هب، رکیش هاهجا رله لدنیاف
ملنهش ملیلجه لعابی ل بن زاهه نا ملیلجه ملکیه، اه، ه، هبنا
هنلتسا نا پتکاب للكف گاممعه (Biliske # ۱۱۰، ۲۰۰۶)
سفله هب رکیش، ادیل، همه رله، اذنا، امشچ، ره کلمه
لنشلریه تمسه نیا، هین، ه للكف ه ملکه رکله رکله
ملنه نلشن ه بذاء، ایة ملنه هشیدیلشت رشیلس ب فخ عه،
لنشلریه رکیش هاهجا رله لدنیاف لکف نا مقلحه بیینخ
(Tawqibat al-Bayan، ۴۰۰۲)

رلھ تیپلہ رلھ تیالعفہ بیٹا (۳۸۳۱) نال لکھمہ ہ رنانا
رلھ نا ہ لفتسا ل و تھے ہ جھلک رلھ ٹھیو رلھ ہ ل
ہلھ ریسیب ہ کشخہ همینہ ہ لکھنے قلنہ ہ ل لیل
رلھ پر تیپلہ رلھ تیالعفہ بیٹا ہ مل دناء رشانگ ہ م
رلھ لات بلشب و تھے ہ جھلک رلھ ٹھیو دیکھا مخصوصہ ہ ملیلش
ملقتعہ ہ اے وجہہ ملقعنہ ل ب رجاء رنمعہ ت لفہ ہ متفیل
رلھ لیلے فنکے دلخواستہ ملکہ رلھ لات ملنتسہ
لما ہ نیتمنوہ نا ب آن لیجہ رجھتا بیختہ ہ مالسلنپے
لین چیلہ بلنسابریہ رقلنہ نیا، و تھے ہ جھلک رلھ ل
ا، و تھے ہ جھلک ل لیل شع نا ہ لفتسا ل ب نیں (۵۷۲۱)
ہ رائے لعنه رلھ پر ملیلش رلھ پر تیپلہ جھنہ مس تصحی
نزا مل جھنے رشانگ ہ اے ہلھ ریسیب ہ لہ ہ ملیل
تلہ لفته رلھ نہ ملقعنہ مس دلخواستہ ملھ خصلہ ل لاما
بلنسابریہ

متسیس ھا جا دلہنیا ف را په نلتسا آ لے
Tiwari) ملش بھ متسیس ھا جا کلمہ تاییغ ملنہ نلش
، نلتسا آ نیا رنینیں شیپ نییعہ مخ (۵۰ دلہ ۰۰۰
کے مخ پر دلین لیب تیمہ نا و تھ متسیس ھا تیپیله
لتف نییعہ متابا (Bestseller ۱۰ دلہ ۲۰۰۳) ملش بھ
ت لبیجہ این دتسا لکشہ لیب متسیس ھا نلتسا آ
Giovanni ۱۰ ۲۰۰۶) ملش بھ بیغہ دلخ بھ متسیس ھا
دلاچھ دلھ ۷۰ مخ (Liaque ۹۸۶۱) اچھ نکیا اچھ را د (۵۰)
نیا ملہ ریه نلش و تھ متسیس ھا ل تملہ نکا ھله
، نلسو بھ نلشہ ل کشہ

Tom's Lespreisung (2003). In: *Die Welt* vom 27.03.2003, S. 12.

نیمعت را پرداخت نہیں گے، باللہ نینا ﷺ Lesqeratuce
لخ نہ نیا باللہ نیا۔ لئے ہے، لهنسیب رکھیں ہائے اہناتسا
پس وہ مب تسلیکت ملعقہ، ہے تسا ملٹی لیکھتے
ہناتسا آن اہنندب لئا تھرے تسلیکت ملعقہ نیا۔ لئے ہشیہ
۱۵ لفتسا

هب نشناه تا بیعه رسی ۾ مهالقه نیا ایش لگن ایشله
 در لکیل پنزا لنت لبھ مه حکیم ٹھاہدا ر دله میانہ اپے
 و تا به دله ان چیت، ریانخ ایمھ مخفیچ ۽ ریپلپنھ هفت
 ن بیعه ۽ بمخشب آن اسفلتخمہ لسماں هب تبسن ر تھلیں
 متفہل بی بخت رکھ لنه ریلس لنیش تھبج در ٻحلمه هن لتس آ
 بليل شل باره

لیشم، ۲۰۱۸ء

معالجه همه مقلمه

دعا و مهمنش

(تسا پ ملنگه لفتسا واء و هن دهه لهه لهه (۰۰۳) ، بل آیه
و هن اهیه ۵۳ هیهان ب تمهیح ۲ راهه ب تحسناهه ۸
۷) متسیسیهه ا تاریخیه تبلیغه لجنآن ، الله هتخالنا
تبلیغه هخشبا نا هلسله لب ب مدلیله هخشبا کریه هن
۶) ب نیا پلک (۹۹۰۱) ، هشیه هتلله تاریخیه
پساهه ب رحلقه هخشبا ب تبسیه تحسناهه به
هلسله هب رحیمه ۰۰۰۱ ل رحیمه ۰۰۰۱ رحیمه ۰۰۱
رحیمه ۰۰۰۲ به رحیمه ۰۰۰۱ ل رحیمه ۰۰۰۱ زان رحیمه ۰۰۰۱ به
تکلیف ۵۱ (ممجه) ، الله هتخالنا رعیمه هن د تکلیف
نینچمه رعیمه وناهه هجده تسلیع . (تحساناهه)
رحیمه لمه آله هن د رعیمه راعیه رحیمه ردهنیه هجده
، بل آمسلا رلتیه ، محن هله ب بلشن و لجن رملک بله ب
رلتیه ، د تکلیف ۵۱ ، بل آمیه رلتیه د تکلیف ۰۱۱
زا کریه ، سپس بل الله هتخالنا تکلیف ۷۱ ، بل آیه
رشیش پن همن لیاء (ب) رکن حکم رخنله ۱۰ ، لهت بل
هیزجت شه هب (بلیه) فنیه د رخنله دو لیقیه
بلیه ، آب رعیمه نالک امشیه ، حلمه لیلیت
(کیا و گل تو ۹۹۰۱).

۵) ملائمه

ریانخ، ایمه مخچے لی رخ پینچه مف دوچ ادیل پ رلهه، اے = x
ر لخ

بدياهة = $b \circ d$ **و** **محلها =** $\{x \in X : f(x) = b\}$

لھوئے پیلھتے ہی نجت

لیلحتہ ۶ ہینجت شہر میں بھخلتہ ۱۰ تسلیمان نے اپنے
درخواستیں ملکہ کے لئے مسٹر نالکا امشچے کے حکامہ
لہ بھخلتہ نیا ۱۰ لفتسا بڑیانہ ۱۰ ایکھنچے ۶ ریویلٹن ۶ فقہ
۶ (نامہ بوجہ) ملی گئی مبسوط کو

$$(1) \text{ ماء عمه} \quad d + x_0 = y$$

$$\text{لعم) ملأ (} \frac{d}{x} + n = q$$

لکیت سجا ہ ر دامت ن ہیسے گی، دنیا لمن ر دلمہ بالله
ہے بلکہ ہ لفتسا ہ لخیہ ر لخیہ بالله ہے بلکہ مگیں
ذنا بنت لبہ لہذا ر دلمہ لعہ بیت عتبہ

$$\gamma = \alpha + \beta e^{(-\omega)}$$

(۵) مطلعه

$$AIC = n \ln \left(\frac{SSE}{n} \right) + 2k$$

٢٦ *Chitloboloane*, ٢٠٠٣) لعلة مبنية في مبنية = ٢٢٤
 (Motjeka, ٢٠١٧).

ن آلسیل بستم حکیم لآ تلعملها بیینه بالله هی به
تسخیث ملحفه ساله نیز تهی بـ لختنا زا اسپ .تسا تهی ساله
بدیعی پیکشیه هنلتیا ناهنچی ساله هی

مقلخنه، ۶۰ هجده رهله رله هنجه ترسیا - ۱۴ هله

(لخت) X رئيسي بـ لبتا $=$ (لخت) X جمله رئيسي بـ لهاـ لبتا \sqcup لوهـ لـتـا $- 2$ باهـ لـبـا

رقم	نوع المعلم	نوع المعلم			النوع
		معلم	معلم	معلم	
١	حلقة تخلف	X			٣
٢	هالسلانچ نلهليي پيشيش		X	X	٥
٣	كېيىشقا ئالقى	X			٣
٤	كېيىشقا لىشى		X	X	٣
٥	لەدىنلىكىيە	X			٣
٦	شىلسەرتىلىكىيە	X			٣
٧	مەلىشىنىڭلىكىيە	X			٣
٨	حلقة جلسه ملتقىيە		X	X	٥
٩	حلقة جلسه تىيەلە	X	X	X	٥
١٠	رەيلەپ نەمنا	X	X		٣
١١	حلقة تفاب		X		٣

جیلز

حلہ دا بیل - ۱

بے ہجھتہ بے لکھ ریالیپ ریلھے ائے شناپ رہے ہے بے

لهم نه لعنة يه و لعنة هالله ۵ علمنا ملهمة

لئے یعنی اس نفعہ میں ریلہا لہ رہا ہے ملٹھ ۱۴۵ء میں اپنے
لیے گئے مہیں لئے سکیڈ لام تھام کا بیان ہے۔ (q ۵۰۰ > ۱۰۰)
(۳) باہمیج:

۶- بیهقی این مطلع نباید مجتهد باشد بلکه از علماء روحانیان حنفیان است.

راغبات نهادنی میسیون	تائید نهادنی	متعهد نهادنی	رسانیده نهادنی	ریلمن نهادنی	ستیسجا نهادنی همگیس	نهادنی میسیون
بل آمیل	۵۱۸۴۲۲	۷۲۱۳۷۱	۹۱۸۳۱	۵۱۸۷۲۱	۸۱۸۷۳۱	
بل آمیش	۵۷۱۸۷۱	۸۰۱۳۸۱	۳۰۱۳۴۱	۰۹۱۷۴۱	۰۰۱۷۴۱	
بل آمیما	۱۸۱۲۵۱	۷۱۱۰۵۱	۱۰۱۳۰۱	۲۱۱	۳۸۱۸۲۱	

لهم، ۵ سالمتها وحلستها سالمه نهرينها فنفعه

وَلَكُنْ رَبِّ الْكَلَبِ يُرْدِلُهُمْ رَبِّ الْشَّنَّاحِ يُرْدِلُهُمْ رَبِّ الْمَالِمَهُ نَيْتَهُ
وَلَبِّ الْمُسْلَكِ يُرْدِلُهُمْ هَسْ رَبِّ الْمَحْمَدِ مَنْهُمْ يُرْدِلُهُمْ يَعْنَيْهُ رَبِّ الْمَالِمَهُ
نَزَانِ الْمُنْتَلِبِهِ بَيْتَهُمْ يُرْدِلُهُمْ يَعْلَمُهُمْ يُرْدِلُهُمْ يَعْلَمُهُمْ

$\Sigma(x)gol \cdot p \backslash o - \cdot y \backslash o = n$

$$x^{1/1-1} = 1 - 1 + 1 = 1$$

رد احمد نہ میسے ہے، بالآخر

$$x \wedge l \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot - / P \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \vee \bigwedge_{1 \leq i \leq n} (Y_i \otimes x) \wedge l \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot x$$

$$+ l \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot - / P \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \vee \bigwedge_{1 \leq i < n} Y_i \otimes x$$

۱۷- رله ملکه بیت هب لهیله تسکش لق
ملش بجه هم خشنا نه ۲۱۵ و ۳۱۳.

حکم حیوانات - ۲

رلهاله دلنه ره پلپنه هف رئیشه رواب لهاله نیتهو
ه بلآهه شه دلبلآمسکه دلتسه هس رواب هن نه ب رلهنه بیمه

$$x^2 - 87x + 173 = 0$$

$$(x-1)(x-173) = 0$$

۱۰۵ ≥ x ≥ ۱۰۰ + ۳۱ = ۱۳۱ نهیں گے

$(\lambda + 0 - x) / (1 + 0 + x^2) / (1 + \lambda^2) = \zeta$ $\Rightarrow \lambda = 0 < x$ ملحق

۲۱۴- ۳۰۷- رله ملکه، بیت ته له نیا، تسخیر
بله آتسیک، مخیش آزار ته ۸۰۵.

رقم الفتوى	عنوان الفتوى	نوع الفتوى	الكلمات المفتاحية	محتوى المقالة	نوع المحتوى
٢٢٠٧١	بيان حكم إلزام العاملين في القطاع العام بدفع مبالغ مالية لصالح المتقاعدين	بيان	بيان، حكم، إلزام، العاملين، القطاع العام، دفع، مبالغ مالية، المتقاعدين	بيان حكم إلزام العاملين في القطاع العام بدفع مبالغ مالية لصالح المتقاعدين	بيان
١٣٧٨	بيان حكم إلزام العاملين في القطاع العام بدفع مبالغ مالية لصالح المتقاعدين	بيان	بيان، حكم، إلزام، العاملين، القطاع العام، دفع، مبالغ مالية، المتقاعدين	بيان حكم إلزام العاملين في القطاع العام بدفع مبالغ مالية لصالح المتقاعدين	بيان
٣٧٧٥١	بيان حكم إلزام العاملين في القطاع العام بدفع مبالغ مالية لصالح المتقاعدين	بيان	بيان، حكم، إلزام، العاملين، القطاع العام، دفع، مبالغ مالية، المتقاعدين	بيان حكم إلزام العاملين في القطاع العام بدفع مبالغ مالية لصالح المتقاعدين	بيان

یاں نے ۱۴۰۰ ملے ۔

رئیش دلهمه از شنای پی مخشب آنرا کیم را
رقبه بی مخشب آنها ملکه هم هبخت است بر یانه اماهه مخچ

ناب و ملته ۱۴۵ء شنبه ۲۷ نونه ریختیه و ریخت ها لعه
تله لاما بیمه (۵۰۱۰) ندیمیه از منعه هر چیزهای لعه
۵. (نامه لجه) یکی همیشه حکیم آ

، هنخشب آن ملیکه ب همراهی ب ریانه، امه هنچه دلهه، اه ت کاه عه دا پر سینلا آتلەللە بیههه - ۵ یاه بله

رالجت نیمسیخے نامہ	حیتسجا ملیعہ ملکیس نامہ	ریلمن نامہ	ریجیمی نامہ	ریجیمی نامہ	ریجیمی نامہ	ریجیمی نامہ
بلآ جوسل	۸۸\۵۳۱	۷۲\۸۰۱	۱۵\۸۹	۲۱	۸۹\۵۷	
بلآ جمعہ	۷۸\۶۶۱	ۮ۱\۸۶۱	۰۲\۲۰۱	۰۷\۸۸۱	۷۰\۸۷۱	
بلآ جیدا	۵۵\۷۸	۸۳\۸۸	۳۷\۸۰	۲۱	۳۱\۳۷	

مکتبہ علمیہ

۹۰ نیا تله‌الله نیا بلب ملئکه هیچه ای ره چلمه
۹۱ تسا ملش ش بازی مجه

$$(0.27 - x)210 + 2510 - 581 = 27 \quad | \cancel{27} \\ 210 - x = 27 \quad | +x \\ 27 = x$$

لهم سأله : $(x^2 + 1)^2 - 95 \cdots \cdot 0 - 05 \sqrt{b} = 0$

الآن : $(x^2 + 1)^2 = 90 \dots \dots \dots - 37 \times 18 = 0$

۱۰- بیت‌هاب لہلله نیارا ب تسلیٹ ملحفہ
مله آتسیک مخشت آزار بته ۲۰۵ ۷۸۳۶

۷۰) دلخواه نیت شفه نیبعت را ب

نہ لیکھ لش نا کی یہ ملکا رسیب ہ دلتسا نیعہ

3. *W. (W.)* *W. (W.)* *W. (W.)* *W. (W.)* *W. (W.)*

لهم اجعله مجده نيلان آمين (٢٥) بناءً على معاشرنا


مَحْلَجَةً (٢) مَهْلَجَةً (٣) مَهْلَجَةً (٤) مَهْلَجَةً (٥) مَهْلَجَةً (٦) مَهْلَجَةً (٧)

ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ

تا بیغه ملکه ۸۵ مخ راه راه مسکن ایل آمیله رده تسبیح
 پرگزیلی ملکه همیجه لهت ملکه ایل رکنه حکم رده سخنله
 دهال سلنچ نله لیگ رشته پر دحله تخلفه تلیمه همه
 دریانه راهه همینچه دل پیشکار لشنه دل پیشکار بالقه
 ملکه ۲۱ مخ ۴۹ راهه ملشلریه رخ ایدلپ رخ پیلپه هفظ
 نه همیآ تلیمه همه پرگزیلی ملکه همیجه ایل تا بیغه
 ملشلریه رکنه حکم تیله لهه دل رکنه تغلب رخ ایدلپ
 PCA ۴۹ راهه رده همیجه لهت ملکه رعینه (۳ راه ملکه)
 دل عله ل رده لهت ملکه CI ۵۶ مخ ۴۹ مخ ۴۹ نلش نینچمه
 ۰۰۰۲ ل رده لهت ملکه CI ۵۶ رخ پیشبا زنا رعینه ۰۰۰۷
 نیلمه رکنه حکم رده سخنله بخن زنا (پیشبا زنا رعینه
 رخ همه دل CI ۵۶ مخ ۴۹ لما ده ایل سخنمه دل CI ۵۶ مخ ۴۹
 رخ همه دل CI ۵۶ مخ ۴۹ لما ده ایل سخنمه دل CI ۵۶ مخ ۴۹
 سفیمه دل سخنمه دل CI ۵۶ مخ ۴۹ دل سخنمه دل CI ۵۶ مخ ۴۹
 (ایلکش) ده ایل


رەتلخىسىز لەھەۋەئى، رەحلەمە دەھىختىش رەپاپ PCA نىيالانچىلىك - ٣ ناھىيە

رەحلەمە رېڭىزى	بىلەمىسىلە دەلتىرى		بىلەمىش دەلتىرى		بىلەپەدا دەلتىرى	
	سالاھىمە	سالاھىمە	سالاھىمە	سالاھىمە	سالاھىمە	سالاھىمە
رەلنەتلىخە	١١٣٠-	٤٢٤٠-	٢٠٣٠-	٠٣١٠	٠٠٣٠-	٠٣٠٠-
مالىسلەنچىلىك ئىشىپ	٥٢٣٠-	٢٣١٠-	٣٠٣٠-	٧٣١٠	٨٠٣٠-	٣٠٠-
ئېبىشقا ئالقە	١٢٣٠-	٢٨٠١-	٥٠٣٠-	١٣١٠	١٠٣٠-	٣٣١٠
ئېبىشقا ئىشىنە	٢٢٣٠-	٥٨٠١-	١٠٣٠-	٥٣١٠	٣٠٣٠-	٧٣١٠
لەملىك ئىشىپ	٧١٢٠-	٣٧٢٠-	١٨١٠-	٨١٣٠-	٣٨١٠-	٧٣٣٠-
ئىشىلىپ ئىشىنە	٧١٢٠-	٧٣٠١-	١٥٧٠-	٣٧٢٠-	٢٣٢٠-	٩٠٠١-
مەلىش رەنگىپ مەھىمە	٧١٢٠-	٨٣١٠-	٧٨٢٠-	٢٨٠١-	٧٠٣٠-	٣٢١٠-
رەنخ جەلسە دەنلىك ئىشىپ	٧٧٢٠-	٨٨٠١-	٧٨٢٠-	٠٢٠١-	٧٨٢٠-	٣٢١٠
رەنخ جەلسە تىيەلە	٧٥١٠-	٥٥٣٠-	٥٣٢٠-	٣٣٣٠-	٧٣٢٠-	٣٢٠٠-
رەنخ ئەپىلپ نەمۇنە	٥٣٠٠-	٠٥٥٠-	٨٠١٠-	٣٥٠٠-	٥٠١٠-	٥٠٣٠-
رەلنەتىپ	١٨١٠-	٥٥٣١-	٥٣١٠-	٣٧٢٠-	١١١٠-	٣٩٥٠-
رەنخ ئەپىلپ	٧٨٢٠-	٨٣١٠-	٧٨٢٠-	١٠١٠-	٣٨٢٠-	٥٣١٠-
رەنخ ئەپىلپ ئەقى	٥٨٢٠-	٨٥١٠-	١٨٢٠-	٥٢١٠-	٥٨٢٠-	٢٧٠٠-
رەنالىخ ئەمە خەپ	٨٠٣٠-	٨٣١٠-	٣٢٣٠-	٣٠١٠	٥٢٣٠-	٠٣٠٠-
وئىچىرىپ ئەلقە	٧٧٨	٠٣٧	٣٩٨	٧٢١	٧٩٨	٣٣٧
رەنلىك ئامەتلىپ	٧٣١٧٥	٢٣١١	٣٠١٣٣	٧١٨	٨١٣	٨٣٠١




رەحلەمە دەھىختىش بە لەپتا، ٤٦ و ٤٧ رەلەھەئى شىخاپۇر ئامەتلىپ
بىلەمىسىلە دەلتىرى، PCA نىيالانچىلىك ئەلفتساپ


تا بیغه لمه، ۵۲ مخ لاه همچه بل ایمه ره لتسه،
 هنگلی ملخ ره هیجته ای لهت پل، ره لخه طلخه ره لوه خلش
 دهالسلنچ نله لیحه لش شپه ره لخه تله لفه تلیمه همه
 در یانه، ااهه هنچه ده بیشگا لشنه ده بیشگا بالقه
 ااهه ره لخه طلخه ره لتبه ره تسبه ره بیلپه هفت ره ادیل پل
 لمه، ۰۱ مخ ۴۹۶ همچه ره لش لبه همه ملش ره اندگ بمس
 نملش ره تلیمه همه هنگلی ملخ ره هیجته ای تا بیغه
 تملش ره هنچه ره لخه تغلب ره لخه طلخه تیمه له دله هلسه
 ره لتسه ره لوه تملپ عینه هه (۳) (ایه لجه) ملش لبه ره شیل سه



تا بیغت ملھے ۳۵ مج را ہا یہ مھمہ بل آبیما دل تنسی ہے
 پکنلیں ملک رہے میجھتے ا ل ہت ملپرے، حکم حکم رہو ہنخلہ
 اللہ کے ہال سلسلے ن لہلیے گی شش پر دھکنے تسلیف کے ت لیسہ مھمنے
 در، ادیل پر دین لند، یا ہمہ مخچپ دیگی بیشا لشنا در گی بیشا
 حکم رہ لنبہ رہ رتیپ رہ ملٹہ رہ لنگب مس یا ہمہ در پینپنہ هفا
 میجھتے ا ل تا بیغت ملھے ۱۱ مج وہ مھمہ ہ ملٹلریہ حکم
 رہ حکم تسلیل در، ادیل ن ہم ان ت لیسہ مھمنے پکنلیں ملک رہے



دلتسيه ردهوتاپل عنونه (۲۰۱۴) ملشکريه له هلس نملشي بخت
نه مخ اه نلشن PCA ووه باها رده همچه ، بلانمه
PCA (همخشيما نا رحهته ۵۰۰۰ دلعيه لردهتايپ) CA وعدي
ردهوتاپل عنونه (همخشيما نا رحهته ۲۰۰۰ لردهتايپ)
ردهوتاپل عنونه (همخشيما نا رحهته ۵۰۰۰ لردهتايپ)
نه مخ اه همچه لـ CA وعديه ملشکريه ييلمته ردهوتاپل
هميقتسيه ملخيان باها همچه لـ CA وعديه لما ۶۰٪ رسپتيعه ملخيان
اه (گشتن) همش مبن مدل ، همچه ملخيان ووه همچه لـ CA وعديه



ر، حلمه رله سنه لش ب له تا، ۵۲، ۵۱ رله سنه پنهانه- ۳ لکه

، بل آپھما دل تھے، PCA نیالاً ہے لفتتا ہے

شج

لدنیا یہ کی شناخت میں مدد ہے جو نے رنالہ نے رنالہ بھی ہذلتساً
رکھنے کی خواستہ تھی میں اسے لعینی کہہ دل دل رکھنے کی خواستہ
ہذلتساً حلقہ، لعینی کہہ تاریخیت بیانیہ میں رنالہ دلشبل
متنیں ہے، حملہ کی شہزادی میں بچنے کے ملشبل کے متن یہیں
ہے بچنے کے مہش سکھیت ایسیغت توجہ ہے اور ۰۴ مہش زہ
L'esperimento، ۲۰۰۳ء) مہش کے متنیں ہے، حملہ کے مبھو
رکھنے کی خواستہ میں اسے نالش چیلتا (Tanto ہے
رنالہ کا مامنہ مخفی پرنسپل مفہوم حکم رنالیل پرنسپل حملہ
نیا میں ملشبل کے رکھنے کی خواستہ میں اسکے نالیلے کا مامنہ
رنالیل پرنسپل مفہوم نہ کیا ہے، ہذلتساً میں نیبہ ۰۴ مہش
بلشبل کے مامنہ مخفی پرنسپل مفہوم حکم رنالیل پرنسپل حکم

وچھے رہانگو و نانیہ بارچ پیٹھ مل جانا نا
ہن لتسا مل رہا ملکہ (Malibra) ۸۸۹ء ملکتی سبھ
ن لسجی ملکہ ن لشنا یعنی رہ لتسیں مل مل خشبا
ن انیہ مل علایہما رہ لتسیں مل خشبا مل دستیں

رله منه ؟ فله نینچمه و (نیزه) کامیابی (A) ب مخده
رله منه (B) ساده و معمولی (P) ب مخده
رله منه (C) دفعه دار و معمولی (D) ب مخده
رله منه (E) دفعه دار و معمولی (F) ب مخده

نیا ملے رکھنے، نتیجت نیا، ملے آتسیب جیلت قبلہ
نیا ملے رکھنے ب (C1) مذکور ہے، جبکہ رجھلمعہ مذکور
رکھنے کا لفظ نیا، (C2) مذکور ہے، جبکہ رجھلمعہ مذکور
ن لہیج رشیت پر رکھنے تکلف کے۔ ملنشیل بھی نیلمتہ رجھلمعہ
اممہ مخپل پر رکھنے کا لشکر دیکھنا، بالمقابلہ ممالکیں پر
کوئی رکھنے رکھنکاری رکھنے کا لشکر دیکھنا، ایک پر رکھنے
ملنے کی وجہ سے رکھنے کا لشکر نیتمنہ ملے رجھانگب میں، امام
رسدہ ملکیان C1 ب رکھنے کی وجہ سے ملنشیل بھی رکھنے کے نیا
رکھنے کی وجہ سے رکھنے کے لہذا آشہک ملنے کا لشکر مذکور
نتیجہ ملکیان ملے رکھنے کا لشکر نیا، ملنشیل بھی رکھنے کے نیا
نیا ملے رکھنے کا لشکر نیا، ملنشیل بھی رجھلمعہ مذکور
رجھلمعہ ملکیان C2 ب لے، ملنشیل بھی رجھلمعہ (رجھلمعہ مذکور
نیا ملے رکھنے کا لشکر نیا، ملنشیل بھی رجھلمعہ مذکور
رجاب بالمشکر رکھنے کے لہذا آشہک نیا بلکہ ملنشیل بھی رکھنے
رجھلمعہ مذکور آنے کا متنسیسیہ اسکے لئے بھی نتیجہ

لطفاً مه یار

- Hypothesis curve in relation to temperature and humidity. *Mem Electron Soc Calif.* 70:60.
- Reitke, W. and van de Koppel, J. 1997. Allometric staple states and trophic level effects in semi-arid grazing systems. *Oikos*, 79:63-76.
- Shmida, T.K., Krueger, W.C. and Shaver, P.T.. 2003. State and transition modelling: an ecological process approach. *Journal of Range Management*, 56: 106-113.
- Tomes, J.D. and Leshtanec, M.I.. 2003. Piecewise regression: a tool for identifying ecological thresholds. *Journal of Ecology*, 84: 2034-2041.
- Tongway, D. and Hindey, N. 2004. Landscapes functioning as stabilizers: a system for monitoring rangelands

function. *African Journal of Range and Forage Science*, 21(2):109-113.

- Tongway, D.J., 1992. Rangeland soil conditions assessment manual. CSIRO. Melbourne.

- Westoby, M., Willett, B.H. and Noy-Meir, I.. 1989. Opportunistic management for rangelands not at equilibrium. *Journal of Range Management*, 42:266-274.

- Wilson, A.D., 1990. The effect of grazing on Australian ecosystems. In: Samuels, D.A., Hobkirk, A.J.W. and How, R.A. (Eds), *Australian Ecosystems: 200 Years of utilisation, degradation and reconstruction*. Proceedings of the Ecological Society of Australia-Chipping Norton

Australia: Society of Australia, 16: 332-344.

Introduction of the functional trispholyd ecological processes changes a long grazings transition in cold season shrubland of Kerman

Khosravi Moshiri¹, A.*², Hesamzadeh³, G.R.A.³, Sepahinia⁴, H.⁴

1.- Corresponding Author, Former M.Sc. student in Range Management, Islamic University of Qazvin Sciences and Nanital Resources, Qazvin, Iran, Email: A.vaziri.Khosravi@yahoo.com

2.- Professor of Qazvin University of Agricultural Sciences and Nanital Resources, Qazvin, Iran.

3.-Associate Professor of Qazvin University of Agricultural Sciences and Nanital Resources, Qazvin, Iran.

4-Assistant Professor, Faculty of Nanital Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

Received: 25.12.2008 Accepted: 03.03.2010

Abstract

Aim of this study was to introduce of the functional trispholyd ecological processes changes along grazing transition of a desertine to determine desertified area. In order to prove the existence of a piecewise trispholyd, two linear models and three nonlinear models (exponentials) were fitted on step-like, initially different grazing data. Two nonlinear models (exponentials curve and a piecewise regression) results to the data than the linear models. It is the evidence of trispholyd along grazing transition. Results also showed that ecosystem near the water point that it needs specific soil conditions to the transition. The basic of the trispholyd were increase of vegetation and transition of the ecosystem near the water point and occurrence of functional trispholyd. According to the results, function near the water point and occurrence of functional trispholyd is suggested for range land ecosystem because defining the regulation of the occurrences of multiple states and promote for sustainable management of range land ecosystems.

Key words: landscape function analysis, trispholyd, grazing transition